

# Telephone conversation between Prime Minister and Prime Minister of Sri Lanka H.E.

## Mahinda Rajapaksa

August 06, 2020

وزیر اعظم اور سری لنکا کے وزیر اعظم عالی جناب مہندا راجاپاکسے کے مابین ٹیلی فون پر گفتگو

06 اگست، 2020

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے سری لنکا کے وزیر اعظم عالی جناب مہندا راجاپاکسے سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور انہیں کل سری لنکا میں پارلیمانی انتخابات کامیابی کے ساتھ کرانے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کووڈ-19 عالمی وبا کے رکاوٹوں کے باوجود مؤثر ڈھنگ سے انتخابات کرانے کے لئے سری لنکا کی حکومت اور انتخابی اداروں کی ستائش کی۔ انہوں نے سری لنکا کے عوام کی انتخابات میں پرجوش شرکت کو بھی سراہا، اور کہا کہ اس سے دونوں ممالک کی مشترکہ مضبوط جمہوری اقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کہا کہ چناؤ کے آئندہ نتائج سری لنکا کی پوڈوجانا پیرامونا پارٹی (ایس ایل پی پی) کی زبردست انتخابی کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جناب مہندا راجاپاکسے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔

اپنے سابقہ خوشگوار اور سودمند بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے، دونوں رہنماؤں نے ہندوستان - سری لنکا کے پرانے اور کثیر رخی صدیوں پرانے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لئے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دوطرفہ تعاون کے تمام شعبوں میں جلد ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔

وزیر اعظم نے بھارت میں کشی نگر بودھسٹ تیرتھ شہر میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قیام کے بارے میں عالی جناب راجا پکسا کو مطلع کیا، اور کہا کہ یہ شہر سری لنکا سے آنے والے زائرین کا جلد ہی استقبال کرنے کے لئے منتظر ہے۔

دونوں رہنماؤں نے کووڈ-19 عالمی وبا سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے ایک دوسرے کے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا، اور آنے والے دنوں میں دوطرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم کیا۔

نئی دہلی

06 اگست، 2020